



(17-0) جے

بالغ

سینٹر (60 اور ان سے اوپر)

## غذائی امداد کا محکمہ

### ایمرجنسی فوڈ اسٹیشنس پروگرام (TEFAP)

"بُنات خود ضرورت کی اظہار"

1 جولائی، 2024 سے 30 جون، 2025 تک لاگو ہے

تاریخ	ایجنٹی کے نمائندے کی دستخط	وصول کننڈہ کا نام
-------	----------------------------	-------------------

نمبر	تقسیم سائٹ کا نام	سڑک کا پتہ
------	-------------------	------------

تقسیم سائٹ کا مقام	زپ	ریاست	شہر
--------------------	----	-------	-----

ایمرجنسی فوڈ اسٹیشنس پروگرام ریاستہائے متحده کے محکمہ زراعت (USDA) کے مطابق عمل میں لا یا جاتا ہے، جو نسل، رنگ، اصل قومیت، جنس، عمر یا معذوری کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی مانعت کرتا ہے۔ اپلیٹ کا دارومند نیل میں دیتے گئے رینما اصول پر ہے۔ وصول کننڈکن پوری لائن کا احاطہ کرتے ہیں جو ان کے گھریلو سائز پر لاگو ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ انہیں پروگرام کے فوائد کے ابل بونے کے لئے اشارہ کئے گئے امندی کے سطح پر، یا اس سے نیچے بونا چاہئے۔

#### کل گھریلو آمدنی (غربت کے 185% پر مبنی)

احاطہ ایک	گھریلو سائز	سالانہ	مباہنہ	بفتہ وار
1	\$	27,861	\$	2,322
2	\$	37,814	\$	3,151
3	\$	47,767	\$	3,981
4	\$	57,720	\$	4,810
5	\$	67,673	\$	5,640
6	\$	77,626	\$	6,469
7	\$	87,579	\$	7,299
8	\$	97,532	\$	8,128
خاندان کے بر اضافی ممبر کے لئے شامل کریں:	\$	9,953	\$	830
			\$	192

میں گھریلو آمدنی کی حدود کو سمجھتا ہوں اور اس کی وجہ سے یہ تصدیق کرتا ہوں کہ میری گھریلو سائز اور آمدنی مجھے پروگرام میں شرکت کی ابل بناتی ہے۔ میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ، اج کے دن تک، میرا خاندان اس علاقہ میں رہتا ہے جہاں پنسلوانیا کے ذریعہ ایمرجنسی فوڈ اسٹیشنس پروگرام میں خدمات انجام دی جاتی ہے۔ یہ تصدیق نامہ وفاقی امداد کی وصولی کے سلسلے میں مکمل کیا جا رہا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیان دینے کے نتیجہ میں مجھے غلط طریقہ سے جاری کئے گئے غذا کی قیمت کی ادائیگی کرنی پڑ سکتی ہے، ریاست اور فیڈل قانون کے تحت مجھ پر مجرمانہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔

وصول کننڈہ کا دستخط	تاریخ
---------------------	-------

اپنی نامزد کاؤنٹی ایجنٹی کو مکمل شدہ فارم واپس کریں۔ اگر آپ کو درست ایجنٹی کے بارے میں مشکوک ہیں تو،

براء کرم 1-800-468-4332 پر محکمہ کو رابطہ کریں۔

اس فارم میں کسی بھی طرح کی تغیر یا تبدیلی نہیں کی جاسکتی ہے۔

ایک ایم USDA غیر امتیازی بیان کے لئے براء کرم اس دستاویز کے پیچے جانب دیکھیں۔

## USDA غیر امتیازی بیان

وفاقی شہری حقوق کے قانون اور امریکی محکمہ زراعت (USDA) کے شہری حقوق کے ضوابط اور پالیسیوں کے مطابق، USDA، اس کی ایجنسیاں، دفاتر، اور ملازمین، اور USDA پروگراموں میں حصہ لینے یا ان کے انتظام کرنے والے اداروں کو نسل، رنگ، اصل قومیت، جنس، معدوری، عمر، یا کسی پروگرام یا سرگرمی میں USDA کے ذریعہ مالی تعاون سے چلائے جانے والے شہری حقوق کی سابقہ سرگرمی کے لئے انتقامی کارروائی کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے روکا گیا ہے۔

وہ معذور افراد جن کو پروگرام کی معلومات کے لئے (جیسے بریل، بڑے پرنسٹ، آڈیو ٹیپ، امریکن سائنس لینگوئچ، وغیرہ)، مواصلات کے متبادل ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے تو، انہیں ان ایجنسی (ریاست یا مقامی) سے رابطہ کرنا چاہئے جہاں انہوں نے فوائد کے لئے درخواست دیا تھا۔ وہ افراد جو بہرے ہیں، بہت مشکل سے سنتے ہیں یا بات کرنے سے معذور ہیں تو وہ فیڈرل ریل سروس (800-8339-877) پر USDA سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، پروگرام کی معلومات انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی مہیا کی جاسکتی ہے۔

امتیازی سلوک کی ایک پروگرام شکایت درج کرنے کے لئے، USDA پروگرام امتیازی شکایت فارم مکمل کریں، جو آن لائن USDA آفس میں، یا [http://www.ascr.usda.gov/complaint\\_filing\\_cust.html](http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html) پر دستیاب ہے، اور کسی بھی مخاطب کر کے ایک خط لکھیں اور فارم میں مطلوب تمام معلومات اس میں فراہم کریں۔ شکایت فارم کی ایک کاپی کی درخواست کے لئے (866-632-9992) پر کال کریں۔ اپنا مکمل کردہ فارم یا خط USDA کو درج کریں بذریعہ:

(1) میل: امریکی محکمہ زراعت برائے اسٹٹٹھ سکریٹری برائے شہری حقوق

Independence Avenue, SW 1400  
Washington, D.C. 20250-9410

(2) فیکس (202)-7442-690؛ یا

(3) ای میل: [program.intake@usda.gov](mailto:program.intake@usda.gov)

یہ ادارہ مساوی موقع فراہم کرنے والا ہے۔

ایمنسی فوڈ اسٹٹھ پروگرام	
پنسلوانیا TEFAP گواہ فارم	
تاریخ	
میرا TEFAP فوڈ پیکٹ حاصل کرے	اس کی وجہ سے اختیار دیتا ہوں
میں کرے اور مجھے ٹلیور کرے۔	
گواہ کا دستخط	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	مؤکل کا دستخط
گواہ کی تصدیق شدہ ID	<input type="checkbox"/>
پیشتری نمائندہ	